

Q. 7. Translate the following into English by keeping in view figurative/idiomatic expressions. (10)

پاکستان، افغانستان میں امن کے لیے پُر عزم ہے کیونکہ افغانستان میں امن، پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے۔ تاریخی تناظر میں دیکھا جائے تو پاکستان اور افغانستان پڑوسی برادر اسلامی ملک ہونے کے ناتے تاریخی، ثقافتی، لسانی رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ رشتے ٹوٹے ہیں، دونوں کا انحصار ایک دوسرے پر ہے اور دونوں الگ الگ رہ بھی نہیں سکتے۔ پاکستان کا موقف روز اول سے یہی رہا ہے کہ افغان مسئلے کا سیاسی حل نکالا جائے۔ اس موقف کی حمایت چین بھی کرتا ہے۔ اس ضمن میں چین نے کہا ہے کہ افغان تنازع کا افغان قیادت میں ہونے والے امن مذاکرات سے ہی حل ممکن ہے۔ پاکستان اور چین اسٹریٹجک شراکت

داری کے لیے افغان تنازع کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔

\*\*\*\*\*

## Translation

Pakistan is committed to secure peace in Afghanistan because peace in Afghanistan is extremely important for Pakistan. ~~It looked the~~ <sup>From</sup> ~~the~~ historical perspective, Pakistan and Afghanistan are bound ~~up~~ with historical, cultural and linguistic relations. Their relations are unbreakable. Both countries depend on each other and neither can survive without ~~each~~ <sup>the</sup> other. From the day one, Pakistan's stance is to <sup>find</sup> ~~found~~ the political solution of the Afghanistan problems. China ~~=~~ also supports this view. China has said in this

Date: \_\_\_\_\_

Day: \_\_\_\_\_

content that Afghan problem can only <sup>be</sup> solved  
through negotiations. As a part of the  
strategic partnership, Pakistan and China  
will play their role in the solution  
of Afghan issue through negotiations.

4/10